

## کابینہ ذمہ دار مجلس حج و عمرہ کی تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات (محض)

مجلس حج و عمرہ کے ذیلی حلقات سے مراد ٹریول ایجنسی کا دفتر ہے

**مدنی مقصد:** مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل

**ذمہ دار کیسا ہو؟** خوفِ خداو ﴿ عشقِ مصطفیٰ والا ﴾ حُسْنِ أَخْلَاقٍ کا پیکر ﴿ غُصِّيَا اور بات بات پر ناراض ہونے کے بجائے حلم و بُرد باری والا ﴾ مُرْشِد مُرْشِد کرنے والا ﴾ 12 مدنی کام کرنے والا ﴾ مدنی مرکز کی اطاعت کرنے والا ﴾ وقت دینے والا ﴾ اور فرض علوم سیکھنے والا (مدنی ہو تو بہت اچھا ہے)

**نیت کی حفاظت:** اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیے، مثلاً رضاۓ الہی، حصولِ ثواب، اسلام و سُنّت کی خدمت کے لئے دُنیا بھر میں دعوتِ اسلامی کا مدنی کام کروں گا، شریعت کے دائے میں رہتے ہوئے مدنی مرکز کی اطاعت کروں گا، ان شاء اللہ متعلقہ ذمہ دار ان کو پیشگی جدول کی اطلاع پیشگی کروں گا، جدول میں ہونے والی تنظیمی و شرعی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔

**1. رابطے میں رہیں:** ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرے میں نگران و ماتحت سے ملاقات کرنا ﴿ ای میلز، وُس ایپ اور میسجز چیک کرنا بر و وقت رپلائی کرنا ﴾ ضرور تاکا لز کرنا سننا وغیرہ۔

**2. 12 مدنی کام:** عملًا 12 مدنی کاموں بالخصوص مدرستہ المدینہ بالغان، علاقائی دورہ، ہفتہ وار اجتماع، یوم تعطیل اعتکاف، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، **نیک اعمال** اور مدنی قافلہ میں شرکت کرنا اور کروانا۔

**3. شعبے کے دیگر نمایاں مدنی کام:** شہر و اطراف میں حج و عمرہ نیز زیارات پر جانے والے خوش نصیب عاز میں حج و عمرہ وزیارات (نجف شریف، کربلائے مععلی، بغداد معلی، اجیر شریف اور بریلی شریف وغیرہ) کی رہنمائی و خیر خواہی کرنا ﴿ ان کو اوقات نماز برائے حرمین طیبین، مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ حج ا عمرہ سے متعلق رسائل بجس نیز امیر الہلسنت دامت بر کا تم العالیہ کا "عززم مدینہ مکتب"، رَفِيقُ الْحَمَدِيْنَ، رَفِيقُ الْمُعْتَمِرِيْنَ، 19 نیک اعمال کار سالہ (برائے حج و سفر مدینہ اور عمرہ و سفر مدینہ) وغیرہ بھجوانا ﴾ روانگی پر ملاقات اور واپسی پر استقبال (شہر کے نمایاں مقامات حاجی کیمپ اور ایئر پورٹ وغیرہ پر نمایاں انداز میں مدنی مرکز کی اجازت اور محیّر حضرات کے تعاون سے حاجیوں کو خوش آمدید اور دعاوں کے بیان وغیرہ کے ذریعے دعوتِ اسلامی اور مجلس حج و عمرہ کی تشویہ کرنا کروانا اور مجلس کے تحت ہونے والے اہم مدنی کاموں کے Video Clip بنا کر مدنی چینل پر چلوانا) اور بعد میں بھی ان سے رابطے میں رہنا ﴿ سرکاری اداروں اور افراد میں کام کرنے کے لئے مجلس رابطہ کے ذریعے سے اجازت لے کر سرکاری کاروائیں، قومی و پرائیویٹ ائیر لائنز و الی کمپنیز، ٹور آپریٹریز، ٹریول ایجنسیز، ائیر پورٹ عملہ (مینی بھر، ڈپٹی مینی بھر اور دیگر افسران وغیرہ) سے ملاقاتیں کرنا اور ان میں مدنی کام (بالخصوص مدنی حلقات کی ترکیب) کرنا اور کروانا ﴿ حج بدلت کی ترکیب کرنا اور کروانا ﴾ کابینہ میں نگرانِ کابینہ و متعلقہ نگران کی مشاورت سے مختلف مقامات پر عاشقانِ رسول کے سُنتوں بھرے اجتماعات برائے حج کا انعقاد کرنا نیز ذیلی مجلس اور بستے لگوانا ﴿ رینجزر، میڈیکل کے افسران، بینک و حاجی کیمپ کا عملہ اور دیگر شخصیات پر انفارادی کوشش کرنا ﴾ شعبے سے وابستہ افراد کے رہائشی علاقوں میں نگرانِ کابینہ / نگرانِ ڈویژن مشاورت کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنا اور کروانا ﴿ حج کرنے والوں کے لئے مدنی حلقات کا دن طے کر کے ہفتہ وار اجتماعات میں اعلانات اور پھر مدنی حلقات منعقد کروانا۔

**4. کارکردگی فارم و مدنی پھول:** اپنے شعبے کے اپ ڈیٹ (UPDATE) مدنی پھول، تمام سطح کے کارکردگی فارمز اور تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے نکات مرکزی مجلس شوریٰ، نگران پاکستان انتظامی کابینہ، رُکنِ شوریٰ کے اور دیگر مدنی مشوروں کے مدنی پھولوں کا مطالعہ کرنا، سمجھنا، اپنے پاس محفوظ رکھنا اور متعلقہ ذمہ داران تک پہنچا کر ملنے کی تصدیق کے بعد باہتمام سمجھانا اور طے شدہ کاموں کا نفاذ کروانا۔

**5. تقری و ریکارڈ:** تمام سطحیوں (کابینہ سطح پر 2 اراکین) کا کام حاجی یکپ اور ایئر پورٹ پر مدنی کاموں کے لئے زکن کابینہ کی مدد کرنا)، ذیلی حلقة (ٹریول ایجنٹسی کے دفتر کی 3 زکنی مجلس) پر تقری پوری کرنا، پوری رکھنا اور ہر ماہ فعال /غیر فعال ذمہ داران کا جائزہ لینا (نوٹ:- کسی بھی ذمہ دار کی تبدیلی /تقری پاک کابینہ دفتر سے جاری تحریری مدنی پھولوں کے مطابق کرنا) اپنا متبادل تیار رکھنا اور ماتحتوں کو بھی اس کا ذہن دینا۔ شعبے میں مدنی کاموں کی مضبوطی اور اسکی ترقی کے لیے نئے نئے ذمہ داران تیار کرنا اور شرعی، اخلاقی اور تنظیمی مدنی پھول پیش کرتے رہنا۔ شعبے سے متعلقہ تمام اداروں اور منسلکین نیز عاشقانِ رسول کی لست بنانا اور بخوانا، بالآخر خصیات کے نام، نمبر مع ایڈریس کا ذیلیاً حسن انداز (مثلاً کیٹگری واائز 1-بڑی، متوسط، عام خصیات)، (2- ہفتہ وار، 15 دن بعد، ماہانہ، ششماہی، سالانہ اور ایونٹ واائز مدنی عطیات دینے والی خصیات کی الگ الگ لست اپ ٹوڈیٹ انداز میں محفوظ رکھنا اور رکھوانا اور ان سے مختلف موقع پر رابطے میں رہنا۔ اپڈیٹ لسٹیں ہر ماہ اپنے زون ذمہ دار اور نگران کابینہ کو بھیجنے۔

**6. دور جدید کے تقاضے:** اپنے شعبے کی مضبوطی و ترقی کے لیے کوشش رہے مثلاً سافٹ ویر میں کارکردگی کا اندرج **الحمد لله آللی ڈیپارٹمنٹ (دعاوتِ اسلامی)** کی 30 سے زائد اپلیکیشنز بن چکی ہیں ان کو (اور بطور خاص حج و عمرہ، **Al Quran with Tafseer**، ودار الافتاء، اہلسنت نیز **Prayer Times** موبائل اپلیکیشنز کو) استعمال کرنا اور شعبے سے متعلقہ عاشقانِ رسول اور خصیات کو ان کا تعارف پیش کر کے انسٹال کرنے اور دوسروں کو استعمال کروانے کی ترغیب دلانا۔ (ان اپلیکیشنز کے لئے اس ایک اپلیکیشن Dawateislami Digital Services میں موجود ہیں) اسی طرح دعاوتِ اسلامی کی تنظیمی ویب سائٹ **WWW.DAWATEISLAMI.ORG** کا وزٹ کرتے کرواتے رہنا۔ بالخصوص ذمہ داران اور گھر گھر میں مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلانا۔ ماہنامہ فیضانِ مدینہ کی بہنگ کرنا اور کروانا۔ ہفتہ وار بڑی راتوں اور ذمہ داران و عاشقانِ رسول کے سنتوں بھرے اجتماعات وغیرہ میں اپنے شعبے کے بستے اور پینا فلیکس لگوانا۔

**7. مدنی کورس:** خود مدنی کورسز کرنا نیز ہر ماہ اہداف طے کر کے یوں ہی وقارِ فوقاً شعبے کے تحت پیشگی بھر پور تیاری کے ساتھ تمام ذمہ داران و عاشقانِ رسول کو مختلف جزو قتی و کل و قتی نیز آن لائن مدنی کورسز (مثلاً اصلاح اعمال کورس، 12 مدنی کام کورس اور مدنی کورس وغیرہ) بالخصوص فیضان نماز کورس کروانا۔

**8. خاص موقع:** بڑی راتوں کے اجتماعات (اجماعِ میلاد، اجتماعِ غوشہ، اجتماعِ یوم غریب نواز، اجتماعِ معراج، اجتماعِ شبِ براءت، اجتماعِ شبِ قدر اور اجتماعِ یوم رضا وغیرہ) نیز جلوسِ میلاد نگرانِ شوریٰ اور رُکنِ شوریٰ کے سنتوں بھرے بیانات نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے "ذمہ داران و عاشقانِ رسول کے سنتوں بھرے اجتماعات" مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار اور دیگر اجتماعات 26 ویں شریف (امیر اہلسنت دامت پر کاتهم العالیہ

کے یوم ولادت پر یہ ترکیب اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے) کے لیے ایصالِ ثواب کے تھانف جمع کروانا ﴿ محمد الحرام اور دیگر موقع کے خصوصی مدنی قافی سفر کروانا ﴾ پورے ماہِ رمضان اور آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے شعبے سے عاشقانِ رسول تیار کرنا۔

**9. ازدیادِ حب:** غمی خوشی کے موقع نیز وقتاً فوقتاً (بالخصوص اپنے شعبے والے سابقہ اور موجودہ) عاشقانِ رسول اور شخصیات سے شرعی، تنظیمی اور ملکی قوانین کے مطابق ملاقات، عیادت، توزیت اور کفن و فن وغیرہ (پیغامات، مکتوبات و اورادِ عطاریہ جاری کروانا) ﴿ ماہانہ کتب و رسائل اور ماہنامہ فیضانِ مدینہ پہنچانے کی تراکیب کرنا ﴾ ان کے بچوں کو جامعۃ البَدینہ، مدرسۃ البَدینہ، دارالبَدینہ اور فیضان ویک اینڈ اسلامک اسکول میں داخل کروانا ﴾ ان کے گھر میں مجلسِ معاونت برائے اسلامی بھینیں کے ذریعے مدنی ماحول قائم کرنا۔

**10. مرحومینِ دعوتِ اسلامی:** والدین و خاندان امیرِ اہلسنت، مرحوم نگران واراکین شوریٰ، ذمہ داران، شہدا و مفتی دعوتِ اسلامی اور محبینِ دعوتِ اسلامی کے ایام پر ایصالِ ثواب کے اجتماعات کرنا کروانا یا شرکت کرنا کروانا۔

**11. مدنی عطیات و خود کفالت:** اپنے شعبے کو ۱۰۰% خود کفیل کرنے کے لئے (بالخصوص مدنی مشوروں میں) انفرادی مہانہ و سالانہ اہداف دینا اور اس کا جائزہ کرتے اور کرواتے رہنا (خود کفیل کرنے کی صلاحیت رکھنے والوں کو ذمہ داری دینا) **ماہانہ مدنی عطیات** بکس، گھر یا صدقہ بکس اور مدنی بستے بڑھانے میں معاونت **سالانہ مدنی عطیات** (رجب، شعبان، رمضان اور شوال) ﴿ ٹیلی تھون قربانی کی کھالیں ﴾ مختلف اجتماعات کے لیے مدنی عطیات جمع کرنا۔ اس کے لئے موقع کی مناسبت سے بڑے مدنی مرکز (فیضانِ مدینہ) بالخصوص عالمی مدنی مرکز کراچی، دارالافتاء اہلسنت (ملاقات)، جامعۃ البَدینہ، مدرسۃ البَدینہ، دارالبَدینہ اور فیضان ویک اینڈ اسلامک اسکول (تعیر شدہ و زیر تعیر) میں شخصیات کی حاضری پیشگی تیاری و متعلقہ ذمہ دار کی مشاورت کے ساتھ کروانا ﴾ شخصیات کے اعزاز و اقربا سے رابطے میں رہنا ﴾ آہم شخصیات کی الگ سے وقت لے کر اپنے زوں ذمہ دار سے ملاقات اور مدنی حلقة منعقد کروانا۔

**12. مطالعہ:** حسب حال فرض علوم ﴿ تفسیر صراط الجنان ﴾ امیرِ اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی جملہ تحریرات (کتب، رسائل اور پھلفٹ) کے مطالعے کی تحریک چلانا اور یوں ہی المدینۃ العلمیہ کی پیش کردہ تمام کتب و رسائل بھی ہدف میں شامل ہوں تو کیا بات ہے نیز تنظیمی کتب و رسائل بالخصوص رسائلِ دعوتِ اسلامی، 12 مدنی کاموں و مدنی مذاکروں کے رسائل ﴿ مرکزی مجلس شوریٰ و دیگر مدنی مشوروں کے مدنی پھولوں ﴾ نیک اعمال کے رسائل میں ترغیب شدہ کتب و رسائل ﴿ فیضانِ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد 2 ﴾ ماہانہ مدنی مشوروں کا بیان ﴿ رَفِیقُ الْحَرَمَیْن رَفِیقُ الْمُعْتَبِرِیْن ﴾ حج و عمرہ ایک نظر میں مع اوقاتِ نماز ﴿ عاشقانِ رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدنیے کی زیارتیں ﴾ آسان حج ﴿ 27 واجبات حج اور تفصیلی احکام ﴾ بچت کے مدنی پھولوں (مجلس مالیات) ﴾ شعبے کے مدنی پھولوں میں درج مطالعہ کرنا اور کروانا (تحانف میں یہ کتب و رسائل نیز یوایس بی / میموری کارڈز ہوں تو کیا بات ہے!) (تنظیمی ذمہ دار یوں (Job Description) کے نکات میں درج ایسے کام جو شرائط فارم میں شامل نہیں ہیں ان کاموں سے متعلق دورانِ اجراء متعلقہ مجلس اجراء اور جدول ذمہ دار کی مشاورت سے ترکیب کرنی ہوگی)

**13. مدنی مشورہ:** مدنی مشوروں میں اول تا آخر شرکت کرنا شعبے کامدنی مشورہ اس سطح کے ذمہ دار کے ذمے ہے مثلاً "مجلس وکالات کابینہ سطح پر 3/5 رکنی مجلس کامدنی مشورہ رکن کابینہ کرے گا) اسی طرح ہر سطح کامدنی مشورہ اس سطح کے ذمے ہے مثلاً ڈویژن مشاورت کامدنی مشورہ نگران ڈویژن مشاورت کے ذمے ہے، ہاں اپنے سے بڑی سطح کے نگران سے مدنی مشورہ کروانا مفید ہے جس سطح پر ذمہ دار / نگران کا تقرر نہ ہو / ذمہ دار / نگران کمزور ہو / نئی تقری (نئی تقری کا عرصہ 3 ماہ ہو گا) ہوئی ہو، وہاں اس سے بڑی سطح کے ذمہ دار / نگران مدنی مشورہ فرمائیں اور جدول چلانکیں نگران / ذمہ دار نے جس سطح یا شعبے کامدنی مشورہ کر لیا ہو تو وہ مدنی مشورہ طے شدہ جدول کا ہی شمار ہو گا مثلاً نگران شوری، رکن شوری یا نگران پاک کابینہ نے اگر کسی سطح (مثلاً ریجن / زون وغیرہ) یا شعبے کامدنی مشورہ کر لیا تو دوبارہ اس سطح یا شعبے کامدنی مشورہ کر لیا ہو تو وہ مدنی مشورہ طے شدہ جدول کا ہی شمار ہو گا مثلاً نگران شوری، رکن شوری یا نگران پاک کابینہ نے اگر کسی سطح (مثلاً ریجن / زون وغیرہ) یا شعبے کامدنی مشورہ کر لیا تو دوبارہ اس سطح یا شعبے کامدنی مشورے کی مقررہ مدت میں حاجت نہیں طے شدہ مدنی مشوروں کے علاوہ اگر مدنی مشورے کی ضرورت محسوس ہو تو پذریعہ انٹرنیٹ (Skype یا Zoom) مدنی مشورہ کیا جاسکتا ہے جہاں بھی مدنی مشورے یا دیگر مدنی کاموں کا جدول ہو تو پیشگی اطلاع کے ساتھ ترکیب کی جائے۔ **مدنی مشوروں کا جدول:** (مدنی مشورہ ان مدنی پھولوں پر مشتمل ہو، ضرور تائزہ میم کی جاسکتی ہے) تلاوت، نعت شریف، پاک کابینہ آفس سے بھیج جانے والے مدنی مشوروں کے مدنی پھول پڑھ کر ہنانا، اجتماعی محاسبہ کروانا، سابقہ مدنی مشورے میں طے ہونے والے اهداف (باخصوص مدرسۃ المدینہ بالغان، جفتہ وار اجتماع، یوم تعظیل اعکاف، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، علاقائی دورہ، مدنی قافلہ، یک اعمال، مدنی کورسز، خاص موقع Events)، مدنی عطیات و خود کفالات، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ وغیرہ کے اهداف) کا جائزہ واگلے ماہ کے اهداف طے کرنا، تقری و تنظیمی معلومات کا جائزہ، پیشگی و کارکردگی جدول، کارکردگی کا تقابلی جائزہ، ذمہ داران کی تنظیمی ذمہ داریوں (Job Description) کے مطابق اُن کے کاموں کا جائزہ، تنظیمی شکایات اور ان کا حل نیز تجاویز پر مشاورت، اختتام مجلس کی دعا۔

#	سطح	شعبہ / سطح	مدنی مشورہ کرنے والے	شرکاء	کتنے ما بعد	کس ماہ مدنی مشورہ ہو گا	تاریخ	دورانیہ (علاوه نمازو طعام)
1	کابینہ	نگران کابینہ	ارکین کابینہ، نگران ڈویژن مشاورت	(جنوری، مارچ، مئی، جولائی، ستمبر، نومبر)	ہر 2 ماہ	4	4 سے 5 گھنٹے	
2		رکن کابینہ	ذیلی حلقة ذمہ داران	(جنوری، مارچ، مئی، جولائی، ستمبر، نومبر)	ہر 2 ماہ	4	3 سے 4 گھنٹے	
3		ریجن ذمہ دار	شعبے کے تحت اس کابینہ کے ہر سطح کے ذمہ داران کو بلایا جاسکتا ہے	(جنوری، اپریل، جولائی، اکتوبر)	ہر 3 ماہ	4	3 گھنٹے	
4		زون ذمہ دار	ارکین کابینہ	(جنوری، مارچ، مئی، جولائی، ستمبر، نومبر)	ہر 2 ماہ	5	4 سے 5 گھنٹے	
5		نگران مجلس پاکستان	زون ذمہ دار، کابینہ ذمہ داران	(مارچ، اگست، دسمبر)	ہر 4 ماہ	5	3 سے 4 گھنٹے	
6		ریجن ذمہ دار، زون ذمہ داران، کابینہ ذمہ داران	شعبے کے رکن شوری	(فروری، ستمبر)	ہر 6 ماہ	6	4 سے 5 گھنٹے	

**14. شیڈول:** جدول مجلس کی جانب سے ملنے والے پیشگوئی جدول (Schedule) پر پیشگوئی اطلاع کے ساتھ عمل کرنا اور کروانا۔ مہینا مکمل ہونے پر یکم سے 3 تاریخ تک کار کردگی جدول اور اسی طرح جب بھی جدول میں تبدیلی ہو متعلقہ ذمہ داران (اپنے نگران کابینہ، زون ذمہ دار اور ریجن ذمہ دار جدول مجلس) کو بھیجا ہر ماہ کابینہ کے تمام ذیلی حلقوں میں حاضری (شعبے کے مدنی کام + 12 مدنی کاموں میں شرکت کا عملی جدول)۔

**15. کارکردگی:** ہفتہ وار رسائی کی اپنی انفرادی کار کردگی اور اپنے شعبے کی ذیلی حلقة واائز کار کردگی اپنے زون ذمہ دار کو جمع کروانا ہر ماہ نیز مختلف تنظیمی موقع پر تمام ذیلی حلقوں کی کار کردگی لینا، چیک کرنا، سابقہ کار کردگی سے اس کے مقابل کا جائزہ لینا اور اپنے زون ذمہ دار اور نگران کابینہ کو کار کردگی جمع کروانا۔ اور مزید ترقی کے لئے کوشش کرنا۔

**16. آئندہ کے اہداف اور فالو اپ:** مدنی مشورے میں سابقہ مدنی مشورے کے اہداف کا جائزہ لینا اور آئندہ کے اہداف طے کرنا مرکزی مجلس شوریٰ، نگران پاکستان انتظامی کابینہ، متعلقہ رکن شوریٰ کے اور دیگر مدنی مشوروں کے مدنی پھولوں نیز دیگر اہداف کا فالو اپ کرنا مجلس فالو اپ کی طرف سے آنے والے فالو اپ (اہداف) کے مدنی پھولوں کا جواب متعلقہ زون ذمہ دار اور پاک کابینہ دفتر شعبہ مجلس فالو اپ کو بھیجنے۔

**17. تنظیمی شکایات و تجاویز:** نئی نئی تجاویز بطورِ ناقص مشورہ نیز تنظیمی شکایات حل نہ ہونے کی صورت میں پاک کابینہ دفتر شعبہ تنظیمی شکایات و تجاویز پر یا 03152692786 یا feedbackpак@dawateislami.net

**پاک کابینہ دفتر 11 ربیع الاول 1442ھ / 29 اکتوبر 2020ء**